

فوری طور پر رجوع کروانے جانے کے سلسلے میں مریض کے لیے معلومات یہ معلوماتی پرچہ اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ کے جی پی یا دانتوں کے ڈاکٹر نے آپ کو ہسپتال کیوں رجوع کروایا ہے، اس سے کیا مراد ہے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔

مجھے ہسپتال سے فوری طور پر رجوع کیوں کروایا گیا ہے؟
 آپ کو ہسپتال سے فوری طور پر رجوع اس لیے کروایا گیا ہے کہ آپ کے جی پی یا دانتوں کے ڈاکٹر کے خیال میں آپ کے طبی علامات کی فوری طور پر مزید تفتیش کی ضرورت ہے اور انہوں نے آپ کو ایک سپیشلسٹ سے رجوع کروایا ہے۔ ان علامات کو بہت سی عام بیماریوں سے منسلک کیا جا سکتا ہے جن میں سرطان کے امکانات بھی شامل ہیں۔

کیونکہ رجوع کرنے کا یہ عمل ہنگامی بنیادوں پر کیا گیا ہے اس لیے آپ کو دو ہفتوں کے اندر ہسپتال سے ایک ایوانٹنٹ کی پیشکش کی جائے گی۔

کیا اس کا مطلب ہے کہ مجھے سرطان ہے؟

فوری طور پر رجوع کیئے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سرطان ہے۔ فوری طور پر رجوع کیئے جانے والے زیادہ تر لوگوں کو سرطان نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو ایک ماہر کو دیکھنے کے لیے رجوع کروایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے فوری طور پر کچھ ٹیسٹ کیئے جانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اخذ کیا جا سکے کہ آپ کے طبی آثار کی وجوہات کیا ہیں۔

اگر آپ میں اس وقت سرطان کی تشخیص کی جاتی ہے تو ابتدائی علاج کا زیادہ سے زیادہ مؤثر ہونے کا امکان اسی صورت میں ہے کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ اس کی تشخیص جتنی جلدی ممکن ہو کی جائے۔ اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو رجوع کیئے جانے کے 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ کو دیکھا جائے۔

مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟

- اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے جی پی یا دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس آپ کا درست پتہ، ٹیلی فون نمبر اور موبائل نمبر موجود ہوں۔
- اس امر کو یقینی بنائیں کہ آپ اگلے دو ہفتوں کے اندر ایک ایوانٹنٹ کے لئے دستیاب ہوں۔ اگر آپ اگلے دو ہفتوں میں ایک ایوانٹنٹ میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر یا دانتوں کے ڈاکٹر کو بتائیں۔
- اگر آپ کو ایک مترجم کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی ہسپتال میں اپنی ایوانٹنٹ سے پہلے ہمیں بتائیں۔
- جب آپ اس ہنگامی ایوانٹنٹ کو تسلیم کر لیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے حاضر ہوں تاکہ آپ کی صحت کی دیکھ بھال میں تاخیر نہ ہو۔
- اگر آپ دو مواقع پر اپنی ہسپتال کی ایوانٹنٹ کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو واپس آپ کے ڈاکٹر یا دانتوں کے ڈاکٹر سے رجوع کروایا جائے گا۔ تاکہ علاج کے لیے آپ کی جگہ کسی اور کو ایوانٹنٹ دی جا سکے۔

اس کے بعد کیا ہوگا؟

ہسپتال والے آپ کو چند دنوں کے اندر خط لکھ کر یا بذریعہ ٹیلیفون ایک اپوائنٹمنٹ کی پیش کش کریں گے۔ اگر آپ کو اپنے جی پی یا دانتوں کے ڈاکٹر سے ملاقات کرنے کے ایک ہفتہ کے اندر اپوائنٹمنٹ کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ہو تو اُن کو بتائیں کہ آپ کو ابھی اپوائنٹمنٹ نہیں دی گئی۔

جب آپ کو ایک ہنگامی اپوائنٹمنٹ دے دی جاتی ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیئے حاضر ہوں۔ اگر آپ اپنی اس اپوائنٹمنٹ کے لیئے حاضر نہ ہو سکتے ہوں تو ہسپتال کو فوری طور پر مطلع کریں۔ اس کے بعد آپ کو ایک متبادل اپوائنٹمنٹ کے لئے بندوبست کرنا ہوگا۔

ہسپتال میں کیا ہو گا؟

جب آپ کو ہسپتال کی اپوائنٹمنٹ دی جائے گی تو آپ عام طور پر ایک سپیشلسٹ کو دیکھیں گے جو آپ کو کچھ مزید معلومات دیں گے کہ آگے کیا ہو گا۔ آپ کے کچھ مزید ٹیسٹ لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جن سے آپ کے جی پی یا دانتوں کے ڈاکٹر اور سپیشلسٹ آپ کے طبی آثار کے بارے میں مزید جان سکیں گے۔ اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ کے دوران کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہوئی تو اس کے بارے میں آپ کو پیشگی بتایا جائے گا۔ اس لیئے آپ کو اپوائنٹمنٹ سے قبل اگر کوئی ہدایات دی جاتی ہیں تو برائے مہربانی اس امر کو یقینی بنائیں کہ آپ اُن پر عمل کریں۔

اگر آپ کو اس بات کی فکر ہو کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کے دوران آپ کی صحت کے بارے میں جو کچھ بتایا جائے گا اُسے آپ شاید صحیح طرح سے سمجھ نہ سکیں اور آپ اپنے ساتھ ایک دوست یا خاندان کے رکن کو لانا چاہیں تو آپ باخوشی ایسا کر سکتے ہیں۔

کیا آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟

اگر آپ کے ہسپتال سے رجوع کیئے جانے کے بارے میں کوئی سوال یا خدشات ہیں تو جی پی کی سرجری یا دانتوں کے ڈاکٹر کو کال کریں اور اُس فرد سے بات کرنے کے لیئے درخواست کریں جنہوں نے آپ کو رجوع کروایا ہو۔